

محمد احراق: حصہ

ایک حدیث

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحداً شَيْئاً
البعير و لكن اشربوا مائشةً و ثلثاً و سموا اذا لنتم شربتم و احمد و ادريس
رفعتم (جامع ترمذی - ابواب الاشربة - باب ما جاء فی التنفس فی الانف)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رواۃ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: جب کوئی چیز پینے لگو تو اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں نہ پی جاؤ، بلکہ دو یا تین ہر تہی
سانس کے کرو یا اور (یاد رکھو کہ) پینا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو اور فارغ ہو جاؤ نو الحمد لله
کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہر قسم کی دینی مذہبی، اخلاقی اور
تہذیبی و ثقافتی تعلیمات سے بھرہ مذہبی اور وہ تمام باتیں ایک ایک کر کے تفصیلاً با
اہمیت ارشاد فرمادی ہیں جو نوع انسانی کی اصلاح و تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی وجہ
ہے کہ اسلام دین کامل ہے۔ اور اس کے اتمام و تکمیل کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ اس
اسی شے کی نشان دہی کر دی جاتی ہو انسانوں کی حیات اہمیتی میں تکھار پیدا کرنے
کی کشور قلب و ذہن کو جلا بخشنے کا باعث بنتی ہے۔

ایک حدیث کو لیجئے جو سرعنوان درج کی گئی ہے۔ یہ حدیث محمد بنیں کے نزدیک
اگرچہ درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، امام ترمذی اسے "هذا حدیث غریب" سے تعبیر کرتے

بیں۔ تاہم اس کا مضمون اپنی بُلگدِ جہاں اتھم ہے اور اس سلسلے کی دیگر احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

حدیث کے الفاظ و معانی سے صاف پتا چلتا ہے کہ آنحضرت امت مسلمہ کے ہر پھوٹے بڑے عمل پر پوری نگاہ رکھتے تھے اور امت کے ہر فرد کو ہر لحاظ سے کامل، داناو بینا اور مذہب و شائستہ دیکھنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ کھانے پینے کے آداب و معمولات کے معاملے میں بھی، جنہیں ہم بعض اوقات نظر انداز کر جاتے ہیں، آنحضرت اپنی امت کی پوری رہنمائی فرماتے تھے۔ آپ نے وضاحت سے فرمایا کہ کوئی چیز پینے کے لیے برتن کو بیوں سے لگاؤ تو تین بالتوں کا خیال رکھو۔

ایک یہ کہ برتن منہ کو لگا کر پانی یا شربت یا دودھ یا لسی ایک ہی سانس میں نہ پی جاؤ۔ پینے کا یہ انداز اونٹ کا انداز ہے۔ وہ جب پانی کو منہ لگاتا ہے تو ایک ہی سانس میں پی جاتا ہے اور اس وقت منہ اور پر انھاتا ہے جب پیٹ۔ بھر جاتا ہے۔ انسان کے لیے یہ انداز اختیار کرنا غلط اور نامناسب ہے۔ یہ حیوان کا طریقہ تو ہو سکتا ہے اور ہے بھی، مگر انسان کو ہر گز زیب نہیں دیتا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ برتن کو منہ لگائے تو آرام اور شائشی سے پینے اور پیتے وقت دو یا تین سانس لے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سانس بھی پانی پینے پیتے پیتے برتن ہی میں نہ لے۔ بلکہ برتن سے منزالگ کر کے سانس لے۔

دوسرے یہ کہ کوئی شے پیدا شروع کرو تو بسم اللہ امرِ حسن الرحمٰن الرحيم پڑھو، تا کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ عام طور پر لوگ کھانے پینے کے موقع پر اللہ کو یاد نہیں رکھتے اور ازراہ نادافنی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو کچھ انھیں ملا ہے وہ محض ان کی قابلیت اور ملگ و دو کا نتیجہ ہے۔ اس کے بر عکس اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، کہ انسان کے وسائل بہر حال محدود ہیں۔ اسے جو کچھ عطا ہوا ہے وہ اللہ کے فضل فرماں اور اس کے کرم بے پایاں کا نتیجہ ہے۔

تیسرا یہ کہ کسی شے کے پینے سے فارغ ہو جاؤ تو بھی اللہ کی نوازش ہائے پیغم کو یاد رکھو اور الحمد لله پڑھو۔ پوری دعا جو اس موقع پر پڑھنی چاہیے، ایک دوسری حدیث

میں مذکور ہے جو یہ ہے۔

الحمد لله الذي اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمين
یعنی سب تعریفیں اور تمام ستائشیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا
اور پلایا اور اپنا فرمان بردار بنا۔

اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات گونا گون کو کسی موقعے پر
بھی بخوبی نہیں چاہیے۔ ہر آن یاد رکھنا چاہیے اور ذہن و قلب کی گھرائیوں میں اس حقیقت
کو راجح کر لینا چاہیے کہ ہم اس کے عاجز و ورماںدہ اور مسکین بندے ہیں۔ ہمارا اصل سہارا اللہ
کی مدد اور اس کی ذات اعلیٰ و اقدس ہے۔ ہم اپنے طور پر صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور کچھ
نہیں کر سکتے۔ ہر معاملے میں اسی کے محتاج ہیں اور اسی کے آگے اپنا دامن طلب پھیلاتے
ہیں۔

وہ تمام اسباب جن کو بروئے کارلا کر ہمارا رزق میا ہوتا ہے، اسی کے پیدا کر دہ
ہیں۔ اگر وہ ہماری دست گیری نہ کرے اور ہماری رہنمائی نہ فرمائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔
اسی نے ہم کو عقل و فہم سے نوازا، اسی نے فکر و فرات کی نعمت عطا فرمائی
اور اسی نے جسمانی و بدنی طاقت سے بسرہ ور کیا اور ہم اس لائق ہو پائے کہ اپنی ضروریات
کا مکمل کر سکیں اور سامان اکل و شرب سے بسرہ یا بہو سکیں۔